



سوال

(299) ماتم پرسی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی جائز ہے یا نہیں؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ماتم پرسی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی جائز ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

تعزیت (ماتم پرسی) کے وقت میت کے لیے دعا کرنا آیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کسی صحابی کے گھر تعزیت کے لیے گئی تھیں جب واپس آئیں تو آنحضرت ﷺ نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ! کہاں گئی تھیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا اس گھر والوں کے یہاں گئی تھی وہاں جا کر میں نے ان کی میت کے لیے دعاء مغفرت کی اور ان کی تعزیت کی (عمون المعبود 3 490) لیکن خاص اس دعا کے وقت اٹھانے کے بارے میں کوئی روایت صحیح یا ضعیف نظر سے نہیں گزری۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری

جلد نمبر 1 - کتاب الجنائز

صفحہ نمبر 460

محدث فتویٰ